




Asus SDRW-S1 LITE Quick Start Manual

External usb dvd writer with sound card


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29



•

Bookmarks



Quick Links

[Download this manual](#) See also: [User Manual](#), [Quick Start Manual](#)



External USB DVD Writer with Sound Card

Quick Start Guide



English

Ελληνικά

Español

□□□□

Eesti

□□□□

български

Suomi

Česky

Français

Dansk

Magyar

Deutsch

Bahasa Indonesia



Copyright © 2016 ASUSTeK Computer INC. All Rights Reserved.

SD R W- S 1 L ITE

Italiano

□□□

Қазақ

□□□

Lietuvių

Latviski

Bahasa Malaysia

v 1.0 Published February 2016

15060-43000100

Nederlands

Slovenščina

Norsk

Svenska

Polski

□□□

Português

Türkçe

(Kurulum Kılavuzu)

Română

Tiếng Việt

Русский

Українська

عربي

Slovensky

فارسی

[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Page 4 No. Елементи Описание Dele Beskrivelse Бутон за включване/изключване Натиснете бутона, за да включите/изключите устройството. Tænd/sluk-knap Tryk på knappen for at tænde/slukke for enheden. Индикатор на захранването LED индикаторът светва при включване. Strømindikatoren Lysindikatoren begynder at lyse, når enheden tændes. Панел на оптичното устройство Поставете оптичен диск тук. Diskdrev Beregnet til at indsætte en disk.

Page 5 Αριθ. Στοιχεία Περιγραφή Nimetus Kirjeldus Toite sisse-/väljalülitusnupp Vajutage nupule, et seade sisse/välja lülitada. Κομπύ ενεργοποίησης/ Πατήστε το κομπύ για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη απενεργοποίησης συσκευή. Toite märgutuli Sisse lülitamisel süttib LED-märgutuli. Δείκτης ισχύος Η λυχνία LED θα ανάψει όταν ενεργοποιηθεί. Optilise draivi pesa Optilise plaadi sisestamiseks.

Page 6 No. Éléments Description No. Item Keterangan Bouton marche/arrêt Appuyez sur le bouton pour allumer/éteindre l'appareil. Tombol daya aktif/tidak aktif Tekan tombol ini untuk mengaktifkan/menonaktifkan perangkat. Voyant d'alimentation La DEL s'éclairera à l'allumage. Indikator daya LED akan menyala bila perangkat diaktifkan. Port de sortie avant Sur les systèmes de haut-parleurs 2/5.1/7.1 canaux, se Port keluar depan...

Page 7 00 00 00 00 00 00 000000 00000000 / 000000 00 00 / 00 0000 00 0000 0000 0000 . 00 00000000 00 0000000000 LED 00000000 00 0000 0000 00 LED 0 00000 . 00000000 2/5.1/7.1 000000000000000000 00000000000 0000000000000000 00 00 00 2/5.1/7.1 00...

Page 8 Vienības Apraksts Items Beschrijving Ieslēgšanas/izslēgšanas poga Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci. Knop voeding aan/uit Druk op de knop om het apparaat aan/uit te zetten. Barošanas indikators Gaismas diode deg, kad ierīce ir ieslēgta. Voedingsindicator De LED licht op wanneer het apparaat is ingeschakeld. Optiskā...

Page 9 Elementy Opis Nr. Elemente Descriere Przycisk włączania/ Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Butonul pornire/oprire Apăsați pe buton pentru a porni/opri dispozitivul. włączania zasilania Indicator de alimentare Indicatorul LED se va aprinde când dispozitivul primește alimentare. Wskaźnik zasilania Wskaźnik LED zaczyna świecić po włączeniu zasilania. Locaș...

Page 10 Číslo Položky Popis Objekt Beskrivning Strömbrytare Tryck på knappen för att slå på/stänga av enheten. Zapnutie/vypnutie napájania Stlačením tohto tlačidla zariadenie zapnite alebo vypnite. Strömindikator LED-lampan tänds när den är påslagen. Indikator napájania Po zapnutí bude svietiť indikátor LED. Infattning för optisk enhet Sätt in den optiska skivan här.

Page 11 № Елементи Опис No. Öğeler Açıklama Кнопка увімкнення/вимкнення Натисніть кнопку, щоб увімкнути/вимкнути пристрій. Güç açma/kapatma düğmesi Cihazı açmak/kapatmak için düğmeye basın. живлення Güç Göstergesi Güç verildiğinde LED yanacaktır. Індикатор живлення LED засвітиться, коли буде подано живлення. Ön çıkış bağlantı noktası 2/5.1/7.1 kanallı...

Page 12 عربي الوصف العنصر الرقم. اضغط على هذا الزر لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله / التشغيل on/off عند التشغيل سيومض مؤشر بيان الحالة مؤشر الطاقة. أدخل قرص بصري هنا لوحة LED زر (إيقاف التشغيل . عند التشغيل ...). محرك القرص الضوئي. اضغط على هذا الزر لفتح اللوحة

Page 13: Connecting To The Computer

Connecting to the computer 00 1 0000 0000 1. toiming Ühendamine arvutiga 1. 0000 USB 2.0 00 0 00000 . 1. Ühendamine teie arvuti USB 2.0 pessa. 2. 00 00000 00 000 00000 2. Toitejuhtme ja toiteploki ühendamine 1. Connecting to a USB 2.0 port on your computer. 0000...

Page 14 Pas 1 Conectarea la computer 00 0 0 00000 0 1 000000 0 0 0000 0 00000 0 00000 1. 000000 0 0 000 0 00 0 00000 0 USB 2.0 00000000 0 000000 0 00000 0 1. Conectarea la un port 2.0 de pe computer. 2.

Page 15: Driver Installation

- El controlador solamente es para el sistema ® operativo Windows . No se necesita instalación de - The driver works only when you connect the SDRW-S1 LITE NOTES ® software para Mac to a PC or notebook.

Page 16 : Selepas pemasangan selesai, sila l'installation terminée, redémarrez votre computer. - SDRW-S1 LITE PC . mulakan semula komputer anda. ordinateur. - CD ...

Page 17 інсталяцію. Завершивши інсталяцію, : computador. перезавантажте комп'ютер. - SDRW-S1 LITE POZNÁMKY: - Ovládač funguje iba vtedy, keď zariadenie ПРИМІТКИ: NOTAS: PC ...

Page 18 .3. در صفحه راه اندازی، بعد از پایان نصب، لطفاً کامپیوتر خود را راه اندازی مجدد کنید . را به کامپیوتر، - دراپور فقط زمانی کار می کند که شما تذکرها . - نسخه و محتوای SDRW-S1 LITE شخصی با نوت بوک وصل کنید - سی دی پشتیبانی ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند...

Page 19: Output Connection

Output connection 3 Paso 3 Conexión de salida Hay tres formas de conectar este There are three ways to connect to this device: dispositivo: A. A. Conectar auriculares estéreo B. B. Conectar sistemas de altavoces ...

Page 20 3 Trinn 3 Koble til utganger Steg 3 Utgångsanslutning Bước 3 Kết nối đầu ra Det er tre måter du kan koble til denne Det finns tre sätt att ansluta till den här Có ba cách để kết nối với thiết bị này. ...

Page 21: Computer Setting

1. Go to control panel and click "Sound". 2. Choose ASUS XONAR S1 LITE. 3. Click "Set Default" to set ASUS XONAR S1 LITE as default audio output. 4. If you want to connect the device to multi-channel speakers, click "Configure"...

Page 22 2. ASUS XONAR S1 LITE επιλογή "Ρύθμιση παραμέτρων" για να asettaaksesi kaiuttimen. 2. Zvolte ASUS XONAR S1 LITE. 3. " " ASUS XONAR S1 ρυθμίσετε το ηχείο σας. *Tämä vaihe ei ole tarpeen kuulokkeita 3. Kliknutím na „Set Default“ (Nastavit käytettävissä.

Page 23 2. Pilih ASUS XONAR S1 LITE. 2. Choisissez ASUS XONAR S1 LITE. 2. Selezionare ASUS XONAR S1 LITE. 2. ASUS XONAR S1 LITE . 3. Klik "Tetapkan Lalai" untuk menetapkan 3. Cliquez sur « Définir comme valeur par 3.

Page 24 клацніть Sound (Звук). položku „Sound“ (Zvuk). 3. "Set Default (")" ASUS 2. Escolha ASUS XONAR S1 LITE . 2. Виберіть ASUS XONAR S1 LITE.

Page 25 2- اختر . كمخرج 1- ASUS XONAR S1 LITE - انتقل إلى لوحة التحكم ثم انقر فوق "Sound" (صوت) 3- انقر فوق " " (تهيئة إعدادات مكبر "Set Default") لتعيين افتراضي (لتعيين صوت افتراضي 4... إذا أردت توصيل الجهاز بمكبرات صوت متعددة القنوات، انقر فوق "Configure" الصوت

Page 26 - For Mac OS 4. Select Speaker. 5. Set up output format according to your speakers. Please follow the instructions below: 6. Click Configure speakers and follow the instructions to complete the setup. 1. Click "Go" on the control bar. 2.

Page 27 - Mac OS - Untuk OS Mac - I Mac OS - Mac® OS Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti: Følg venligst instruktionerne nedenfor: Sila ikut arahan di bawah: 1. Osoita ohjauspalkissa "Go (Siirry)". 1. Klik på "Go" på betjeningslinjen. 1.

Page 28 - Pentru SO Mac - Mac OS : Urmați instrucțiunile de mai jos: 1. Faceți clic pe „Go” (Pornire) din bara de 1.

Page 29 S DRW- S 1 L I T E E x t e r n a l U S B D V D W r i t e r w i t h S o u n d C a r d...